

30 اکتوبر 2018

پرچون اسٹوروں پر چرس کی دستیابی کے بارے میں سٹی عوام کی رائے سننا چاہتا ہے ٹیلیفون سروے اور آن لائن پبلک پال کا آغاز کر دیا گیا ہے

برامپٹن، آن - سٹی آف برامپٹن اس حوالے سے اپنے شہریوں کی رائے حاصل کر رہا ہے کہ آیا چرس کے ریٹیل اسٹوروں کو برامپٹن میں کام کرنے کی اجازت دی جائے یا نہیں۔ چرس کے ریٹیل اسٹوروں کے بارے میں ایک ٹیلیفون سروے اور ایک [آن لائن پبلک پال](#) کے ذریعے عوام کی رائے جاننے کی کوشش جائے گی اور یہ عوامی رائے نئی سٹی کونسل تک پہنچائی گی۔

سرخیاں

- بذریعہ ٹیلیفون سروے منعقد کرنے کی ذمہ داری سٹی نے فریق ثالث کی ایک فرم انوائرونکس (Environics) کو سونپی ہے جس میں برامپٹن کی مختلف آبادیوں سے تعلق رکھنے والے کل 800 نمائندہ شہری حصہ لیں گے۔ ٹیلیفون سروے رواں ہفتہ کے اختتام کے قریب شروع ہو جائے گا۔
- ٹیلیفون سروے مکمل کرنے کے لیے، سٹی کی ویب سائٹ پر ایک [آن لائن پال](#) اب مہیا کر دیا گیا ہے۔ یہ پال 9 نومبر 2018 کو بوقت رات 11:59 پر اختتام پذیر ہو جائے گا۔
- عملہ کی جانب سے سٹی کونسل کو 5 دسمبر کو پیش کی جانے والی رپورٹ میں بذریعہ ٹیلیفون اور [آن لائن پال](#)، دونوں کے نتائج کے علاوہ دیگر مواد بھی شامل کیا جائے گا تاکہ نئی منتخب شدہ کونسل کو آگاہ فیصلے کرنے میں مدد مہیا کی جا سکے۔

چرس بشمول ریٹیل اسٹورز کے متعلق براہ کرم www.brampton.ca پر جا کر [FAQs](#) میں مزید تفصیلات حاصل کریں۔

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں [ٹوئٹر](#) اور [فیس بک](#) پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654